



Niyat (Intention) for Fasting:

(can also be made in one's own language)

اللهم اصوم غد لك فاغفر لي
ما قدمت وما آخرت

Transliteration:

Allahumma Asumu-Ghadan Laka Fagfirti
Makaddamtu Warna- Akhartu

Meaning

O Allah for thy glory do I fast, forgive me
(I implore) for all my sins'

Prayer at breaking the Fast :

(Alternatively in own language)

اللهم لك صمت وبك امنت وعليك
توكلت وعلی رزقك افطرت فتقبل مني

Transliteration :

Alluhmma Laka - Sumtu Wa-Bika- Amantu Wa-Alaika-
Tawakkaltu Wa - Ala Rizkika Aftartu Fatakabbal- Minni

Meaning:

O Allah for Thy glory have I fasted.
I have believed and entrusted myself to Thee,
& I break my fast with the provision from Thee,
thus accept from me my fast'

**TO KEEP FAST IS THIRD
AND VERY IMPORTANT
PILLAR OF ISLAM**

ROZAH MAKRUN :- (UNPLEASANT THINGS)

1. TO APPLY TOOTH PASTE OR POWDER.
2. TO GATHER AND SWALLOW SALIVA IN MOUTH.
3. TO TASTE SOMETHING UNNECESSARILY
4. TO TOUCH WIFE WITH SEXUAL DESIRE
5. TO BACKBITE - TO TALK SOMEBODIES BACK

FOLLOWING BREAK ROZAH BUT NEED QUZA ONLY:

- (1) TO EAT , DRINK SOMETHING THINKING THERE IS STILL TIME FOR SEHRI, (2) TO BREAK ROZA THINKING SUN HAS SET WHEREAS IN FACT IT HAS NOT. (3) IF WATER GOES DOWN THE THROAT DURING MOUTH WASH. (4) IF TOOTH PASTE OR POWDER GOES DOWN THE THROAT. (5) BY VOMITING MOUTH FULL DELIBERATELY OR BY SWALLOWING THE CONTENTS OF EXPULSION INSTEAD OF VOMIT. (6) TO PUT MEDICINE IN EAR OR NOSE OR INHALE SMOKE.

FOLLOWING BREAK FAST AND NECESSITY

QUZA AND KAFFARAN:
KEEP 60 ROZAH CONTINUOUS OR FEED 60 POOR PEOPLES. TO EAT, DRINK OR HAVE SEXUAL INTERCOURSE DURING ROZAH DELIBERATELY.

FOLLOWING DO NOT AFFECT ROZAH:

- (1) TO EAT, DRINK BY MISTAKE OR USE MISWAK.
- (2) VOMITING ON ITS OWN. (3) TO HAVE INJECTION OR APPLY SURMA. (4) TO USE HAIR OIL OR ATTAR.

SIX SUNNATS DURING RAMADAN :

- (1) TO HAVE SEHRI
- (2) TO BREAK ROZAH IMMEDIATELY AFTER SUNSET.
- (3) TO PERFORM TARAWIH.
- (4) TO INCREASE THE READING OF QURAN.
- (5) TO FEED THE POOR AND NEEDY
- (6) TO OBSERVE A ETEKAF DURING LAST TEN DAYS OF RAMADAN.

PLEASE DON'T DO DURING MONTH OF RAMADAN :

- (1) DON'T SPEAK WITHOUT PURPOSE
- (2) DON'T TELL LIES
- (3) DON'T BACKBITE
- (4) DON'T ARGUE AND FIGHT
- (5) DON'T SWEAR
- (6) DON'T EAT DOUBTFUL FOOD
- (7) DON'T LOOK AT UNDESIRABLE THINGS.
- (8) DON'T LISTEN TO OBJECTIONAL SPEECH
- (9) DON'T GOSSIP
- (10) DON'T COMMIT ANY SIN.

2018 - RAMADAN TIME TABLE - 1439H

RAMADAN	DAY	MAY/JUN 2018	END OF SEHRI	IFTAR TIME
*1	WED	16	03:19am	08:49pm
2	THUR	17	03:17am	08:51pm
3	FRI	18	03:16am	08:52pm
4	SAT	19	03:14am	08:54pm
5	SUN	20	03:12am	08:55pm
6	MON	21	03:11am	08:56pm
7	TUE	22	03:09am	08:58pm
8	WED	23	03:08am	08:59pm
9	THUR	24	03:06am	09:00pm
10	FRI	25	03:05am	09:02pm
11	SAT	26	03:04am	09:03pm
12	SUN	27	03:02am	09:04pm
13	MON	28	03:01am	09:05pm
14	TUE	29	03:00am	09:07pm
15	WED	30	02:58am	09:08pm
16	THUR	31	02:57am	09:09pm
17	FRI	1 Jun	02:56am	09:10pm
18	SAT	2	02:55am	09:11pm
19	SUN	3	02:54am	09:12pm
20	MON	4	02:53am	09:13pm
21	TUE	5	02:52am	09:14pm
22	WED	6	02:51am	09:15pm
23	THUR	7	02:50am	09:16pm
24	FRI	8	02:50am	09:17pm
25	SAT	9	02:49am	09:18pm
26	SUN	10	02:48am	09:18pm
27	MON	11	02:48am	09:19pm
28	TUE	12	02:47am	09:20pm
29	WED	13	02:46am	09:20pm
30	THUR	14	02:46am	09:21pm

رمضان المبارک

قرآن اور رمضان: قرآن حکیم اسی مہینے میں اترا، جو تمام انسانوں کے لئے نور ہدایت ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اتنے اور ایسے معجزے دیئے گئے جن کو دیکھ کر اس پر لوگ ایمان لاسکتے ہوں اور مجھے (جو) اہم ترین معجزہ دیا گیا وہ تو وہی کلام الہی (یعنی قرآن) ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھ پر وحی فرمائی ہے۔ (بخاری)۔ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو قرآن سیکھے اور سکھائے وہ بہترین انسان ہے۔ (بخاری)

روزہ اور اس کی اہمیت:

روزہ اور اسلام کا چوتھا رکن ہے۔ ہر عاقل، بالغ، تندرست اور متہم مسلمان پر روزہ فرض ہے۔ جس شخص نے ایمانی کیفیت کے ساتھ اور اجراء خیرت کی نیت سے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ (مشکوٰۃ)۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس مہینے میں کوئی ایک نیک کام اپنے دل کی خوشی سے بطور خود کرے گا وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا اور مہینوں میں فرض ادا کیا ہو۔ اور جو اس مہینے میں فرض ادا کرے گا۔ وہ ایسا ہوگا جیسے رمضان کے سوا دوسرے مہینے میں کسی نے ستر فرض ادا کئے۔ (مشکوٰۃ)۔ انسان کے ہر عمل خیر کا اجر دس گنا سے سات سو گنا تک ملے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لیکن روزہ اس سے مستثنیٰ ہے۔ کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا (بھٹنا چاہوں گا) بدلہ دوں گا (آخر) انسان اپنی شہوت نفسی اور اپنا کھانا پینا میری ہی خاطر تو روکے رہتا ہے۔ (مسلم)۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ (مشکوٰۃ)

اس ماہ کے آداب:

- (1) سحری کھانا (۲) سورج ڈوبتے ہی افطار کرنا۔ (۳) روزے کی حالت میں اور افطار کے وقت دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ (۴) مسواک کرنا۔ (۵) غلط باتوں سے دور رہنا۔ (۶) صدقات و خیرات کرنا۔ (۷) آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا۔
- تین عشرے:** پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کا ہے۔

روزے کے مسائل: روزے کی حالت میں بھول کر کچھ کھانے پینے سے، دن کے وقت احتلام ہو جانے سے، سرمہ لگانے سے، آنکھ میں دوا ڈالنے سے نیک لگانے سے، بالوں میں تیل ڈالنے سے، خوشبو لگانے یا سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ خود بخود تھوکتے ہو جانے سے، مسواک کرنے، پیسٹ کے بغیر برش پھیرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جان بوجھ کر تھوکتے کرنے اور روزہ کی حالت میں روزہ توڑنے کی نیت کرنے سے قضا واجب ہو جاتی ہے۔ کچی کرتے وقت حلق میں پانی جانے، جان بوجھ کر کنکر، پتھر، لوہا، شیشہ وغیرہ جیسی چیز کھانے سے، جو غذا یا دوا کے طور پر نہیں کھائی جاتی۔ سحری کا وقت ختم ہو گیا مگر غلطی سے سمجھا کہ ابھی باقی ہے، افطاری کا وقت نہیں ہوا مگر غلطی سے سمجھا وقت ہو گیا اور کھاپی لیا تو روزہ نہیں ہوا۔ اس کے بدلے روزہ رکھے۔ جان بوجھ کر کھانے پینے اور جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کفارہ یہ ہے کہ ساتھ دن لگاتار بلاناغہ روزہ رکھے یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائے یا دو سیر گندم یا اس کی قیمت فی کس کے حساب سے ساٹھ مسکینوں کو ادا کرے۔ مریض و مسافر کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت حاصل ہے۔ البتہ چاہے یکمشت پورے ماہ کا یا ایک روزانہ ایک مسکین کو صدقہ فطر کے برابر رقم یا کھانے کا سامان دینا واجب ہے۔ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی رخصت ہے اور صرف روزے کی قضا واجب ہے۔ ایام ماہواری اور نفاس کی حالت میں روزہ رکھنا منع ہے۔ اور صرف قضا واجب ہے۔

روزہ کے لئے ضروری چیزیں: (۱) رمضان کے روزے کی نیت کا ہر رات طلوع فجر کے وقت یا اس سے پہلے ہونا ضروری ہے۔ (۲) طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانا پینا اور مضطرت (جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے) سے رکے رہنا۔

لیلۃ القدر: اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ہم نے یہ قرآن عزت والی رات (لیلۃ القدر) میں اتارا، تمہیں کیا پتہ کہ یہ عزت والی رات کیا ہے۔ یہ عزت والی رات ہزار مہینوں سے افضل ہے۔ اس میں فرشتے اور روح الامین اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے انتظام کے لیے اترتے ہیں۔ اور صبح ہونے تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ (سورہ القدر)۔ لیلۃ القدر ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹ اور ۳۰ راتوں میں تلاش کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے پورے ایمان و خلوص سے لیلۃ القدر عبادت میں بسر کی۔ اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ (بخاری)

نماز تراویح: تراویح کی نماز سنت موکدہ ہے جو مسلمان نماز تراویح خلوص ایمان سے اور اجراء خیرت کی نیت سے پڑھے گا۔ اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

اعتکاف: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف کرتے تھے۔ (بخاری و مسلم) اعتکاف منوں ہے۔ ۲۰ رمضان کو غروب آفتاب سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے اندر عبادت میں مصروف رہنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔

صدقہ فطر: ہر مسلمان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ جس کے پاس اس کے اور اس کے عیال کے لیے عید کے دن اور رات کے خرچ سے زائد ہو۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرے کی ذکوۃ امت پر فرض (واجب) کی تاکہ وہ ان بے کار اور بے حیائی کی باتوں سے جو روزہ دار سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ کفارہ بنے اور غریبوں اور مسکینوں کے کھانے کا انتظام ہو جائے۔ (ابوداؤد)

مقدار: دو سیر گندم کے آنے کی قیمت کے برابر رقم صدقہ کرے، بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے۔

عید الفطر: عید انعام کا دن ہے۔ اور دو رکعت نماز واجب ہے۔ اس دن غسل کرنا، خوشبو لگانا اور اچھے کپڑے پہننا، اور عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کچھ کھانا سنت ہے۔

FITRANA £3.00

(Per Head)